



جب نبی کریم ﷺ نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ حالتِ احرام میں تھے اور جب ان سے خلوت کی تو آپ احرام کھول چکے تھے اور ان کا انتقال بھی مقام سرف میں ہوا

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب نبی کریم ﷺ نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ محرم (حالتِ احرام میں) تھے اور جب ان سے خلوت کی تو آپ احرام کھول چکے تھے اور ان کا انتقال بھی مقام سرف میں ہوا

[اس حدیث کی سند صحیح ہے] [متفق علیہ]

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث سے یہ فوائد مستفاد ہوتے ہیں کہ جس وقت نبی ﷺ نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ احرام کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور ان سے خلوت فرمائی تو احرام کھول کر حلال ہو چکے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع 'سرف' نامی مقام پر ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ ﷺ نے ان سے خلوت فرمائی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ذکر کردہ اس حدیث کے تئیں کہ نبی ﷺ نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، علماء نے یہ وضاحت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وہم ہو گیا؛ کیوں کہ اس روایت کے وہی منفرد راوی ہیں اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کی مخالفت ثابت ہے اور اس قصہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیات میمونہ رضی اللہ عنہا اور ابورافع رضی اللہ عنہما سے ان کی مخالفت مروی ہے، کیوں کہ ان دونوں سے اس قصہ کا براہ راست تعلق ہے ابورافع رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نبی ﷺ اور میمونہ رضی اللہ عنہا کے مابین سفیر کی حیثیت سے تھا اور آپ ﷺ نے ان سے نکاح فرمایا اور حالتِ حلال ہی میں خلوت فرمائی خود ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں آپ ﷺ مجھ سے نکاح فرمایا اور حالتِ حلال ہی میں نکاح فرمایا ہے ہوسکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا علم، آپ ﷺ کے حالتِ احرام میں آنے کے بعد ہوا ہو اور انہیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ ﷺ نے حالتِ احرام میں ان سے نکاح فرمایا بعض اہل علم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو اس بات پر محمول کیا کہ آپ ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے حدود حرم میں نکاح فرمایا اور آپ اس وقت حلال تھے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58073>